



### سٹی آف برامپٹن، ماسک لازمی پہننے کی پابندی کے ضمنی قانون کو ختم کرتے ہوئے معمولات زندگی کو بتدریج اور بحفاظت طریقے سے دوبارہ کھول رہا ہے

برامپٹن، آن (18 مارچ 2022) – سٹی آف برامپٹن صحت اور حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معمولات زندگی کو دوبارہ کھولنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور ہمارا عملہ آہستہ آہستہ اور محفوظ طریقے سے دفاتر اور شہر کے کام کی جگہوں پر واپس آ رہا ہے۔

#### ماسک لازمی پہننے کی پابندی کا ضمنی قانون

سٹی نے اپنے [برامپٹن کووڈ-19 مینڈیٹری ماسک بائی لاء](#) میں ترمیم کر دی ہے اور یہ بروز پیر، مورخہ 21 مارچ سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پابندی صوبہ اونٹاریو کی جانب سے اسی تاریخ کو زیادہ تر صوبائی ترتیبات میں بھی ماسک لازمی پہننے کی پابندی کو ہٹائے جانے کے مطابق ہٹائی جا رہی ہے۔

پبلک ٹرانزٹ اور انڈور ٹرمینلز، صحت کی دیکھ بھال کی سہولت گاہوں، طویل مدتی نگہداشت کے مراکز اور اجتماعی نگہداشت کی سہولت گاہوں جیسی منتخب شدہ ترتیبات میں ماسک پہننے کی شرط جاری رہے گی۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا احترام کریں جو ایسے مقامات میں بھی ماسک پہننا جاری رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں انہیں مزید ضرورت نہیں ہے۔

فیس ماسک لازمی پہننے کے ضمنی قانون کے تحت، کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لیے پہلے تمام اندرونی عوامی مقامات پر نان میڈیکل ماسک پہننے کی پابندی تھی۔ ترمیم سے قبل، اس قانون کی مدت میعاد یکم اپریل 2022 کو ختم ہونی تھی۔

#### برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز میں [صوبے کے ضوابط](#) کے مطابق ماسک پہننے کی شرط لاگو رہے گی۔

صفائی اور جراثیم کشی کا عمل جاری ہے اور سہولیات اور ٹرمینلز جن کی سطحیں سخت ہیں، ان کو روزانہ صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔

سروس اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں یا ہمیں بذریعہ [@bramptontransit](https://www.bramptontransit.com) ٹویٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

#### تفریح

21 مارچ سے شہر کے تفریحی مراکز میں داخل ہونے والے افراد کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ جو لوگ تفریحی سہولیات کا استعمال کرتے ہوئے ماسک پہننا جاری رکھنا چاہتے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

تفریحی مراکز میں گنجائش کی حدود اور ویکسین لگوانے کا ثبوت دکھانے کی شرط کو حالیہ صوبائی ضابطوں کی روشنی میں ختم کر دیا گیا ہے۔ ریکرینیشن سنٹر رجسٹر شدہ اور ڈراپ ان پروگراموں کے لیے کھلے ہیں۔ تفریحی مراکز میں تشریف لانے کے لیے، پہلے سے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تاہم، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وزیٹرز اپنی آمد سے پہلے اپنی مطلوبہ خدمات کو آن لائن خرید لیں کیونکہ تمام خدمات پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔

دستیاب پروگراموں کی چھان بین اور رجسٹر ہونے کے لیے ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/registerforprograms](http://www.brampton.ca/registerforprograms)، 311 پر کال کریں یا سٹی کے کسی بھی تفریح مرکز میں بذات خود تشریف لے جائیں۔

#### وفود



بروز بدھ، 30 مارچ 2022 تک تمام سٹی میٹنگز میں وفود ریموٹ طریقے سے شرکت کریں گے۔ 30 مارچ کے بعد، وفود کو ذاتی طور پر شرکت کی اجازت دی جائے گی، جس میں ریموٹ طریقے سے شرکت کا انتخاب بھی موجود رہے گا۔

سٹی کی آنے والی میٹنگز کا شیڈول [یہاں](#) پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

### کووڈ-19 سکریننگ

شہر کی سہولت گاہوں، بشمول تفریحی مراکز میں داخل ہونے کے لیے اب پہلے سے اسکریننگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر وہ بیمار محسوس کر رہے ہوں، تو اپنے گھر پر ہی ٹھہریں۔

سٹی رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے وبائی مرض کے دوران جسمانی طور پر دوری، اچھی حفظان صحت کی مشق کرنے اور پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے ماسک پہن کر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ رہائشیوں کو چاہیے کہ وہ بیمار ہونے کی صورت میں گھر میں ہی رہیں اور کووڈ-19 کے خلاف ویکسین لگوا کر اور قوت مدافع حاصل کر کے اپنی کمیونٹی کی صحت و تحفظ کو اولین ترجیح دیتے رہیں۔ کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم صوبائی [ویکسین پورٹل](#) ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)